

PAKISTAN DOMESTIC
SEASON 2019-20
14 SEP - 24 APR

CRICKET
CHAMPIONS
Inspiring the
Nation



خیبرپختوانخوا، نوجوان اور جارحانہ مزاج کھلاڑیوں کا اتحاد

- افتخار احمد، محمد رضوان اور عادل امین پر مشتمل بیٹنگ لائن اپ
- عمران خان، سمین گل اور محمد الیاس پر مشتمل باؤلنگ لائن اپ

لاہور، 12 ستمبر 2019ء:

ناردرن کرکٹ ٹیم کے خلاف میچ سے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن 2019-20 میں اپنے سفر کا آغاز کرنے والی خیبر پختوانخوا کی ٹیم میں سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کا حسین امتزاج ہے۔

اے سی سی ایمرنگ ٹیمز 2018 کے سیمی فائنل میچ میں پاکستان کی قیادت کرنے والے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان نئے ڈومیسٹک سیزن میں خیبرپختوانخوا کی قیادت کریں گے۔

محمد رضوان کی عدم موجودگی میں ٹیم کی قیادت صاحبزادہ فرحان کریں گے۔ پی سی بی نے نوجوان کرکٹر کی قائدانہ صلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے صاحبزادہ فرحان کو خیبرپختوانخوا کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیا ہے۔

29 سالہ افتخار احمد خیبرپختوانخوا کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ دائیں ہاتھ کے بلے باز نے گذشتہ سیزن کے 7 میچز میں 73.33 کی اوسط سے 665 رنز بنائے تھے۔ افتخار احمد قائداعظم ٹرافی 2017-18 کے دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمین تھے۔ انہوں نے 11 میچز میں 735 رنز بنائے تھے۔ اس سیزن میں افتخار احمد نے سوئی ناردرن گیس کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ دفاعی چیمپئن واپڈا کے خلاف افتخار احمد نے فائنل میچ کی پہلی اننگ میں 73 اور دوسری اننگ میں 106 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو ٹائٹل جتوایا تھا۔

دائیں ہاتھ کے بیٹسمین عادل امین کی موجودگی سے ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ مزید مضبوط

ہوئی ہے۔ عادل امین نے گذشتہ سیزن میں 60 کی اوسط سے 654 رنز بنائے جس میں ایک ڈبل سنچری بھی شامل تھی۔

35 سالہ آراؤنڈر نوہیب خان قائد اعظم ٹرافی 20-2019 میں خیبرپختوانخوا کی نمائندگی کریں گے۔ نوہیب خان کی قیادت میں پشاور کرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی کرکٹ کی ایک مضبوط ٹیم بن چکی ہے۔

جارحانہ مزاج بلے باز نبی گل اور اسرار اللہ بھی ایونٹ میں خیبرپختوانخوا کی بیٹنگ لائن اپ کو مزید مستحکم کریں گے۔

فاسٹ باؤلنگ کے شعبے میں سمین گل اور محمد الیاس خیبرپختوانخواہ کی جانب سے حریف کھلاڑیوں کو زیر کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ محمد الیاس ایچ بی ایل پی ایس ایل میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کرچکے ہیں۔

دونوں فاسٹ باؤلرز نے گذشتہ سال قائد اعظم ٹرافی کے 5،5 میچز میں شرکت کرچکے ہیں۔ سمین گل نے خان ریسرچ لیبارٹری کی جانب سے 17.68 کی اوسط سے 17 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ گذشتہ ایونٹ میں محمد الیاس نے پشاور کی نمائندگی کرتے ہوئے 15.90 کی اوسط سے 33 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

دونوں نوجوان فاسٹ باؤلرز 32 سالہ عمران خان کے ہمراہ خیبرپختوانخواہ کے فاسٹ باؤلنگ کا شعبہ سنبھالیں گے۔ فاسٹ باؤلر عمران خان 91 فرسٹ کلاس میچز میں 335 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل میں بہترین باؤلنگ کا مظاہرہ کرنے والے اسپنر عمر خان خیبرپختوانخوا ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔ تجربہ کار نوہیب خان اور عرفان خان بھی اسپن باؤلنگ کا شعبہ سنبھالیں گے۔

محمد رضوان، کپتان خیبرپختوانخوا:

خیبر پختوانخوا کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ نوجوان اور سینئر کھلاڑیوں کی موجودگی کے باعث ہمارا فاسٹ باؤلنگ کا شعبہ مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے باؤلرز موجود ہیں جو نیا اور پرانا گیند کرنے کے ساتھ ساتھ گیند کو ریورس کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔

محمد رضوان نے کہا کہ ہمارا اسپن باؤلنگ کا شعبہ قدرے کمزور ہے تاہم بہترین آراؤنڈرز

کی موجودگی سے یہ کمی محسوس نہیں ہوگی۔

کپتان نے کہا کہ ہمارے پاس محدود فارمیٹ کی کرکٹ کھیلنے والے جارحانہ مزاج بلے باز موجود ہیں تاہم تجربہ کار افتخار احمد کی موجودگی ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔

محمد رضوان نے کہا کہ ہم جلد از جلد متوازی کھلاڑیوں پر مشتمل متوقع پلیئنگ الیون تیار کر کے ایونٹ میں مستقل کارکردگی دکھانے کا عزم رکھتے ہیں۔

خیرپختوانخوا سیکنڈ الیون:

جارحانہ مزاج مڈل آرڈر بیٹسمین خشدل شاہ خیرپختوانخوا سیکنڈ الیون کی قیادت کریں گے۔ خشدل شاہ 54 لسٹ اے میچز میں 47 کی اوسط سے رنز بناچکے ہیں۔ جس میں 8 سنچریاں بھی شامل ہیں۔ خشدل شاہ نے رواں سال پاکستان کپ میں ناقابل شکست 154 رنز کی جارحانہ اننگ بھی کھیل رکھی ہے۔

الیونٹ میں بطور کپتان شرکت محدود فارمیٹ کے جارحانہ مزاج بلے باز 24 سالہ خشدل شاہ کی قائدانہ صلاحیتوں میں نکھار لانے میں مددگار ثابت ہوگی۔

محمد محسن خان، محمد نعیم، سمیع اللہ جونیئر، اعتراز حبیب خان اور مہران ابراہیم جیسے نوجوان کھلاڑی خیرپختوانخوا ٹیم میں شامل ہیں۔ گوہر علی وکٹ کیپنگ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔

لیگ اسپنر اسد آفریدی اور بائیں ہاتھ کے باؤلر آصف آفریدی تجربہ کار اسپنرز ساجد خان اور خالد عثمان کے ہمراہ سیکنڈ الیون کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ارشد اقبال، احمد جمال، عزیز اللہ اور عرفان اللہ شاہ فاسٹ باؤلنگ کا شعبہ سنبھالیں گے۔

سیکنڈ الیون کرکٹ ٹورنامنٹ میں خیرپختوانخوا اور ناردرن کے درمیان مقابلہ 14 ستمبر کو کے آر ایل اسٹیڈیم راولپنڈی میں ہوگا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk